Registrations and refunds

# NA speaker assures business community of addressing major concerns

RECORDER REPORT

SLAMABAD: Asad Qaiser, aker, National Assembly sday assured business comnity that the National embly Standing Committee Finance would call Federal ard of Revenue (FBR) to ress major concerns of regred units including registras and refunds.

e was addressing as Chief est at a dinner that was hostby Malik Sohail Hussain ner Senior Vice President I and Chief Coordinator G FPCCI in honor of outng Office Bearers of ICCI hammad Ahmed Waheed sident, Tahir Abbasi Senior e President and Saif ur man Khan Vice President.

sad Qaiser said that busicommunity was performtremendous job for promotthe economy and assured he would provide all possicooperation in resolving key issues.

cials of FBR and other ness related entities to the ding Committees of NA to address major issues of could be facilitated in fur-

promoting business activi-

NA Sajida Zulfiqar appreed the good efforts made by sident ICCI Muhammad ned Waheed and his team ng their tenure for the welhoped that the incoming n of ICCI led by Sardar eve many new milestones he business community.

rdar Tanveer Ilyas Khan, of business community. irman, Punjab Board of stment briefed the partici- Munaza Hasan,

uhammad



from CDA, FBR and other organizations and hoped that his successor would carry forward his positive initiatives to serve the cause of business

Sardar Yasir Ilyas Khan, newly elected President ICCI, appreciated the achievements of his predecessor who has set high benchmarks of performance and assured that he would try to organize top line Expo in Islamabad besides e said he would call the making efforts for new industrial estate in Islamabad and holding seminars for the benefit of business community.

Malik Sohail Hussain, forness community so that mer Senior Vice President ICCI, and Chief Coordinator FPCCI UBG paid tributes to the services of outgoing Office Bearers Muhammad Ahmed Waheed President, Tahir Abbasi Senior Vice President and Saif ur Rehman Khan Vice President ICCI for proof business community moting the interests of business community effectively in their tenure and hoped that the ir Ilyas Khan would new incumbents would try to complete their unfinished agenda for resolving the issues

MNAs Sajida Zulfigar and is about the potential Tanveer Ilyas Khan Chairman stment opportunities in Punjab Board of Investment, ab and said that business Sardar Yasir Ilyas Khan newly munity should capitalize elected President ICCI, Sheikh nem for achieving lucrative Anser Aziz Mayor Islamabad, former Presidents FPCCI Ahmed Abdul Rauf Alam and eed, President, Islamabad Ghazanfar Bilour, former mber of Commerce & Presidents ICCI including stries highlighted the key Khalid Javed, Tariq Sadiq, evements of his tenure. He Eiaz Abbasi, Khalid laba

### **BIAFO INDUSTRIES LIMITED**

### NOTICE OF 32ND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the 32<sup>nd</sup> Annual General Meeting of Biafo Industries Limited will be held on October 27, 2020 at 11:00 a.m. at 1st Floor, Biafo House, Plot No. 23, St No. 38-40, I&T Centre, G-10/4, Islamabad, to transact the following business:

#### ORDINARY BUSINESS

- To confirm the minutes of Annual General Meeting held on October
- To receive and adopt the Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2020 together with Auditors' report and Directors' report thereon
- To approve the payment of final cash dividend of Rs. 1.00 per share (10%) declared on September 22, 2020 and also the interim cash dividends of Rs. 1.50 per share (15%) declared on October 23, 2019, Rs. 1.50 per share (15%) declared on February 18, 2020 making a total of Rs. 4.00 per share (40%) cash dividend along with 10% bonus shares declared on September 22, 2020 and 10% bonus shares declared on February 18, 2020 making a total of 20% bonus shares for the year ended June 30, 2020.
  To appoint Auditors for the year 2020-21 and to fix their
- remuneration. Retiring Auditors M/s KPMG Taseer Hadi & Co. Chartered Accountants being eligible offer themselves for reappointment for the year 2020-21.
- To transact such other business as may be placed before the meeting with the permission of the Chairman.

Islamabad: September 22, 2020

By Order of the Board Khawaja Shaiq Tanveer

Company Secretary Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 19, 2020 to October 27, 2020 both days inclusive

- A member entitled to attend and vote at the meeting shall be entitled to appoint another person, as his/her and proxy to attend, demand
- or join in demanding a poll, speak and vote instead of his/her and a proxy so appointed shall have such rights, as attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member. Proxies in order to be effective must be received at the registered office of the company not later than 48 hours before the meeting duly stamped, signed and witnessed. A proxy need not be a member of the
- CDC Shareholders or their proxies are required to bring with them their original National Identity cards or Passports along with the Participant's ID numbers and their Account Numbers at the time of attending the Annual General Meeting in order to authenticate their usual documents required for such purposes.

#### For CNIC & Zakat

Members are requested to submit a copy of the Computerized National Identity Card (CNIC) to update our records. In case of nonsubmission of CNIC (copy), all future dividend warrants may be

ssues of business community ty attended the dinner.

ndustries highlighted the key Khalid Javed, Tariq Sadiq, chievements of his tenure. He Ejaz Abbasi, Khalid Iqbal aid that with untiring efforts, Malik, diplomats and large e got resolved some very old number of business communi-

## PDM to hold first public gathering in **Quetta on Oct 11**

NAVEED BUTT

ISLAMABAD: Pakistan party alliance of the opposition country. parties, on Tuesday announced against the Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) government.

The PDM made this committee meeting convened Igbal.

The PML-N's Maryam Bilawal Bhutto-Zardari did not attend the meeting.

"It was decided that on its first public gathering and then the movement will spread Pakistan of this unconstitutional system and incompetent PTI government," former prime Shahid Khaqan Abbasi said, while addressing a news conference

prime minister Raja Pervez eign policy of the PTI govern-Ashraf, JUI-F leader Abdul ment. National Party (ANP) leader Mian Iftikhar Hussain, and others, were also present on this

Shahid Khaqan Abbasi said that the steering committee of ment had failed to improve the the PDM had developed organisational structure for the movement, and now it would

the PDM leaders condemned racy. "The issues of unem- ernment. ployment, inflation, corruption and others, which are frustrating the people, were also discussed in the meeting," he said.

He said that the meeting also in the country.

Abbasi said that all parties eral elections,

agreed on this decision, and The you will see that this move-Democratic ment will bring about a real Movement (PDM), the multi- political transformation in the

He said that the movement's to hold its first public gathering future strategy would be decidon October 11 in Quetta ed in the second meeting of the steering committee next Monday

Abbasi said that the steering announcement after its steering committee's convenership would be changed on a rotaby Pakistan Muslim League- tional basis, with the PML-N's Nawaz (PML-N) leader Ahsan Ahsan Iqbal to serve as its convener for the first month.

About the arrest of the Nawaz and PPP Chairman Leader of the Opposition in the National Assembly Shehbaz Sharif by the National Accountability Bureau (NAB), October 11, the PDM will hold Raja Pervez Ashraf said that "such tactics will weaken democracy, and the anger and all over the country and rid grievances of Pakistanis will

He said that the lives of the people were in miserable conminister and PML-N leader dition due to price hike, unemployment and worst economic situation of the country

He claimed that Pakistan The PPP leader and former was facing danger due to for-The PPP leader said Ghafoor Haidri, Awami that more public gatherings and rallies would also be organised in other cities to mobilise public to join their movement.

He claimed that the governeconomy, and brought it to the brink of destruction.

He expressed concern over be sent to parties' leaderships arrest of Opposition Leader in the National Assembly He said that the meeting of Shehbaz Sharif, saying the move was aimed to sabotage the shrinking space for democ- the movement against the gov-

Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F) leader Maulana Ghafoor Haidri said the PTI-led government had lost its credibility in the public, and claimed that it condemned the "flood of infla- had failed to provide five miltion, rising unemployment and lion low-cost houses and 10 historic corruption" going on millions new jobs to the people as promised prior to 2018 genNational Identity Card (CNIC) to update our records. In case of nonsubmission of CNIC (copy), all future dividend warrants may be

Members are requested to submit declaration as per Zakat & Ushr Ordinance 1980 for zakat exemption and to advise change in address, if any.

As per Section 242 of the Companies Act, 2017, in case of a public listed company, any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Therefore, through this notice, all shareholders are requested to update their IBAN details in the Central Depository System through respective participants. In case of physical shares, to provide bank account details to our Share Registrar, M/s Riasat Ishtiaq Consulting (Pvt) Ltd. E-Dividend mandate form is enclosed.

FILER AND NON FILER STATUS

i) In pursuance of Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 whereby different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies. These tax rates are as under:

a) For filers of income tax returns 15%

b) For non-filers of income tax returns 30%

To enable the Company to make tax deduction on the amount of cash dividend @ 15% instead of 30%, all the shareholders whose names are not entered into the Active Tax payers List (ATL) provided on the website of FBR, despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL on or before the date of approval of cash dividend at the Annual General Meeting on October 27, 2020 otherwise tax on their cash dividend will be deducted @ 30% instead of @ 15% Further, according to clarification received from Federal Board of Revenue (FBR), with-holding tax will be determined separately on 'Filer/Non-Filer' status of Principal shareholder as well as jointholder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint accounts. In this regard all shareholders who hold shares jointly are requested to provide shareholding Proportions of Principal shareholders and Joint-holder(s) in respect of shares

held by them (only if not already provided) to our Shares

Company Name	Folio/		Principal Shareholder		Joint Shareholder	
	10000000			Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC No.	Proportion

ii) For any query / problem / information, the investors may contact the Company or the Share Registrar at the following addresses, phone numbers, email addresses:

**Biafo Industries Limited** 

Registrar, in writing as follows:

1"tFloor, Biafo House, Plot No. 23, St No. 38-40, I&T Centre, G-10/4, Islamabad, Pakistan.

Tel: +92512353450-53, 2353455-57, Fax: +92512353458 Website: www.biafo.com, E-mail: management@biafo.com Riasat Ishtiaq Consulting (Pvt) Limited

Office No. 19-20, 2nd Floor, Hill View Plaza, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad, Pakistan.

Tel: +9251 2344223-4, Fax: +9251 2605658

iii) The corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants, whereas corporate members having physical shares should send a copy of their NTN certificate to the company or its Share Registrar i.e. M/s Riasat Ishtiaq Consulting (Pvt) Ltd. The shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote company name and their respective folio numbers

STATEMENT OF UNCLAIMED OR UNPAID AMOUNTS UNDER SECTION 244 OF THE

COMPANIES ACT, 2017

The Securities and Exchange Commission of Pakistan pursuant to section 244 read with section 510 of the Companies Act 2017 directs all Companies to submit a statement to the Commission through eServices portal (https://eservices.secp.gov.pk/eServices/) stating therein the number or amounts, as case may be, which remain unclaimed or unpaid for a period of three years from the date it is due and any other instrument or amount which remain unclaimed or unpaid, as

Through this notice, the shareholders are intimated to contact with the Company for any unclaimed dividend/shares within a period of seven days after publishing this notice to meet the compliance of SECP Direction no. 16 of 2017 dated 07 July 2017. The Shareholders are requested to contact the Company on its registered address regarding any unclaimed dividends or undelivered shares (if any)

#### بخت 748ارے روئے کی ٹرانز یکشنز کی کئیر

اراز يشزىمرى رووث كمطابق بيكارى كى مجموى تحت 748 ارب روي كى از يكشنزكى مى ايس از یشنز میں سے بوائنے آف سیز اور ڈیبٹ کارڈ رپورٹ کےمطابق گزشتہ الی سال کی تیسری سمائی وائے مشیز کے ذریعے 102.5 ارب رو کے الین کے دوران ای کامرس ٹرانز یکشنز کے ذریعے 7.1 وین کیا گیا ہے۔ای طرح موبائل فون بینکنگ کے ارب رویے کالین دینا کیا گیا ہے۔مزید برآل گال ذر میعے کی شرانز یکشنز کا جم 1467.5 ارب رویے رہا سنفر اینڈ ایکٹو وائس رسیانس (آئی وی آر) کے ذريع 3.2 ارب رويي كى الرائز يكشنز كى الني يين-

ہے جبکہ انٹرنیف بینکاری کی سہولت سے استفادہ کے

نے کی خواہاں ہے حام اکرام اللہ

**BIAFO INDUSTRIES LIMITED** 

يك G-10/4/24 ماسلام آباديل درج فيل اموركي انجام دى كيلي معقد موكا:

1- مال عام معقده 24 كتوبر 2019 كمعش كتوثيق-

مكىل ہونے والے سال كے ليے 20 فيصد يونس شيئر كى منظورى -

ر پورٹس کی صولی ،زیرغورلاناادراختیار کرنا۔

دوباروتعيناتي كيلتے پيش كياہے

اسلام آباد، مورى: 22 ستبر، 2020

کی عموی دستاویزات کی توثیق کی جاسکے۔

شنیر هولڈرز کے32 ویں سالانہ اجلاس عام

کیلئے ممبران کو نوٹس

بذريد وأس بذا مطلع كياجاتا بي كد BIAFO الأسطريز لمينذ كا32وال سالاند اجلاس عام بتاريخ 127 كتوبر،

2020 بوقت 11:00 يج مع 15 افلور، BIAFO إنس، بلاث نمبر 23 مجل نمبر 40 -38 ، آتي اينذ في سينز،

2- 30 جول 2020 كومكل بونے والے سال كے آؤٹ شدہ اكاؤنش كح ڈائر يكرز اور آؤيزز كى

3- 22 متبر 2000 كواعلان كروه حتى تقدمنا فع منظمه 1.00 رويد في شيتر (10%) اور 23 كتوبر

2019 كو اعلن كردوعبورى لقد منافع مقسم 1.50 روي في شير (15%)، 18 فرورى

2020 كو اعلال كروه عبورى تقدمنا فع منقسمه 1.50 روي في شير (15%) مجموعي طور ير

4.00 رويي في شيكر (40%) نقد منافع معقسمه بشول 22 ستير 2020 كواعلان كرده 10 فيصد

بينس شير اور 18 فرولي 2020 كواعلان كرده 10 فيصد بونس شير ،اسطرح 30 جون 2020 كو

4- 2020-21 لية آلى زاوران كرمعاو في كالقررى - ريثا ترة موف والما تويرزميسرزك في

5- چیزین کی اجازت سے میلنگ میں رکھے جانے والے بھو مگر آمور کی اعجام دی کے لیے۔

ا يم ي تا شيرادي المذلكين وارثرة اكاوتف في الليت كمال موفي يرفود كوسال 2-2020 من

كيني هير متفلى كت 19 كتوبر 2020 تا 27 كتوبر 2020 (بشول دونون ايام) بندر يل كل

اجاس پزاش میں شرکت اور ووٹ دینے کا استقاق رکھنے والے میرا نی جگہ پرووٹ دینے اور شرکت کرنے کے لئے کسی دومرے میرکوا یا پراکس مقرر کرسکتا ہے۔ مقرر قص کو مطالبہ پول پر بولئے اور

ووٹ کرنے کے وی حقوق حاصل ہول گے جو کدمبر کوحاصل ہوتے ہیں۔ پراکسی کے موثر ہونے کیلئے

ضروری ہے کہ میر شدہ، دینخط شدہ اور گواہی کے ساتھ پراکسیز (Proxies) کمپنی کے رجسٹر ڈو آفس

میں میڈنگ شروع ہونے ہے 48 گھنٹے قبل بیٹنے جانی جاہئیں۔ پرانسی کیلئے کپنی کاممبر ہونا ضروری نہیں۔

كاروزيا يا يورنس، يا شركت كننده كآئي لا ي نبرز، اكاؤنث نميرز ما حداليس تا كدان مقاصد كيلخ ان

EAST AIR IS

3- ى دى كى هير بولارزيان كے پراكسى، سالانداجلاس مام يش شركت كے وقت البين بهراه اصل شاختى

محكم بورد

خوا حيثانق تنوير

كمين سيرفري

القارقى كے بيذكوار ثركراچى ميں سندھ فيكنيكل اليجيكيثن اور ووكيشنل شرينتك اتفار في اور ياكستان ايسوى ايشن آف برنشک اینڈ گرا فک آرٹس انڈسٹری کے مابین الم او یو پر دستخط کی تقریب کے موقع پر مہمان خصوصی ك حيثيت سے خطاب كرتے ہوئے كى ، انہوں نے کیا کہ انہیں سندھ میں فیکنکل وویشنل کے شعبے میں ے بہت تیزی سے ترتی کررہی ہے، یہ بات انہوں | کہا کہ انہیں سندھ مٹن ٹیکنگل ورکیشٹل کے شیعے نے مظل کو سندھ ٹیکنگل ایکوکیشن و ورکیشٹل ٹریٹنگ | اس طرح کے کا مرتے ہوئے نوٹی ہوئی ہے۔

كراچي (اساف ريورثر) صوبائي وزيرصنعت و تجارت اورانسداد بدعنواني اورمحكمه كوآير يثوجام أكرام الله دهار يجون كهاب كهسنده حكومت أوجوانو لكفني تعلیم میا کرنے کے خواہاں ہے تاکہ وہ باعزت معاش حاصل رعلیں کیونکہ دنیائلٹیکل تعلیم کی مدو

اسلام آباد (اے لی لی) الی سال 2020 کی تيرى سدمائى كےدوران 7.1 ارب روپ ماليت كاك كامرى رازيكشز كالني بين مشيث بنك آف کتان کی ربورٹ کے مطابق جنوری تامارچ 2020 کے دوران پاکتان میں مجموعی طور پر 145 کھرب روبے کی فرانز یکشنز کی گئی ہیں۔ یے منٹ سسٹم

انثربینک میں ڈالر 5 پیسے ستا

كراچي (اسثاف ريورش) كرنسي ماركيث ،انشر بینک میں ڈالر کے پیے جبکہ او پن مارکیٹ میں 10 پیے ستا ہو گیا ،فاریکس ایسوی ایشن کی رپورٹ کے مطابق منگل کورویے کے مقابلے میں ڈالر کی قیت 5 یے گھٹ گئی جس کے بعد ڈالر کی قیت خرید 165.90 \_ كم موكر 165.85 روي موكى اور قیت فروخت 166.10روپے سے کم ہو کر 166.05 رويے ہو گئ جبكه او ين ماركيث ميں 10 يسي کی کی سے ڈالر کی قبت خرید166.00رویے سے گے کر 165.90روپے اور قیت فروخت 166.30 \_ مُن كر166.20 روي موكن، برطانوي یاونڈ کی قیمت میں بھی ایک رویے کی محی ریکارڈ کی گئی جس کے بعد برطانوی یاونڈ کی قیت خرید 213.00 ع م بوكر 212.00 روي اور قيت فروخت 215.00 ہے کم ہو کر214.00روبے ہو کئی، تاہم بوروکی قبت میں 75 میسے کے اضافے کے بعد 192.75روياور 194.75رويي موكى -

کمیٹیوں کامقصد تسٹمز افسران کی کارگر دگی میں بہتری لا نااور شکایات کااز الہ کرنا ہے ا

التياز احديث بحيثيت چيرين، نائب صدرايف يي ى كى آئى خرم اعاز بحيثيت وائس چيئرين اوراسشن كلكثر ميذكوارثرا يمسى ي انفور سمنك شفيع الله بحیثیت ممبر/میکریٹری کے طور پر کام کریں ۔ جبه ایم ی ی ایریزمنٹ اینڈسی لینیشن (ایث) میں قائم کردہ سمیٹی کے ارکان میں كلكر أنجينتر رياض اے ميمن بطور چيتر مين جبك نائب صدرانی کی می کا تی خرم اعجازوائس چير مين اوراسشنك ككفرشهز اوعلى ممبر اسيكريثرى كى حيثيت سےام فراہم مرانجام دیں مے جبکہ تيسرى كمينى ايم ى كى اپريزمنك ايندنسي لينفن (ویسٹ) میں قائم کی گئی ہے جس میں کلکٹر محرجیل ناصرچیز بین، نائب صدرانف کی ی ی آئی خرم اعباز دائس چیز بین اورڈ پٹی کلکر علی مستعم منهاس بطور ممراسيكريٹرى اپنى ذمددارى اداكريں گے-

كراجي (اساف ريورثر)ايف في آرنے سفر افسران کی کارکردگی میں بہتری لانے اور جونير افسران كے خلاف شكايات كازالے كے لي تمام كلفريش بين المثيرين كميشيان قائم كى بين ، کراچی کے 3 کلکویش میں بنائی جانے والی كيٹيوں ميں ايف يى ى ى آئى كے نائب صدر خرم اعازكو بطوروائس چيرين شامل كيا كيا يا بي جرم ا عَاز كراجي سنمزا يجنش اليوى ايثن كے صدر بھى رہ م بیں اوروہ کسٹرزا یجنش کو درپیش سائل سے بخولی واقف ہیں ۔فیڈرل بورڈآف ریونیو نے حال بی میں ان کمیٹیوں کوکام کی منظوری دی ہے۔ ان کمیٹیوں میں سٹرزافسران کےساتھ ساتھ برنس کمیونٹی کے نمائندوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق چیف کلکٹر سٹر انفورسمن میں قائم کی گئی کمیٹی میں کلکٹرائم سی سی ایکسپورٹ

اسلام آباد (اے بی بی) تاجروں کی سمولت کے لئے اکم فیکس گوشوارے علاقائی زبانوں میں جاری کر دیے گئے۔وزیراعظم یا کتان کے وژن کو مذنظر رکھتے ہوئے اور مشیر برائے خزانہ و رہو نیو کی بدایات کے مطابق فیڈرل بورڈ آف رایونیو نے چھوٹے تاجروں کے لئے علاقائی زبانوں میں اکم تیکن گوشوارے جاری کردیے ہیں۔ اکم تیکن گوشوارے بنجابی، سندگی، چشق اور بلوچی زبانوں میں ایف بی آرکی ویب سائٹ پر اپ اوڈ کر دیے گئے ہیں۔ ایف کی آرنے علاقائی زبانوں میں آگم میس گوشوارے جاری کرنے کا فیصلہ تاجروں کو گوشوارے داخل کرتے وقت در پیش مشکلات ك تناظر مي كيا ہے۔ الف في آركار وبارى سوليات فراہم کرنے میں ہرممکن اقدامات اٹھارہاہے۔

روبرو: جناب خالد حسين شاباني جج صاحب بعدالت وسركت وسيشن في كراجي ايث ایسس ایم ارتحسب 962س اُل 2020ء درتواست برائے تنسیعش بریقکیٹ، لیوآف ایڈ مشویشن

يخلاف عوام الناس .... مدما عليهان

ے بیش کی مے موہ کرائی میں دہا کرتے نے کرائی میں فوت ر دفوات کی جانب کے کے 10-2020 1-11 یوٹ کا استان میں رسومین دولات کرائے کی میں کسیسان

تاجروں کی سہولت کے لئے اٹکم ٹیکس گوشوارےعلا قائی زبانوں میں جاری

ر يروفعه 372-278 يا كستان سكسيطنوا مك 39 مجر 1925م وجهر جاويد ولدا قبال الدي \_ ( متوفى ) ميره عيس ولد فحرجاويد علم. بالغ ساكن مكان كبر 42-20 + بلك 10-40 محتن اقبال

**GOVERNMENT OF PAKISTAN MINISTRY OF RAILWAYS RAILWAY BOARD** 

Ministry of Railways (Railway Board), Islamabad invited sealed Tenders from Sales Tax and NTN Registered firms with offices in Rawalpindi/Islamabad for installation of:

- PA & Audio System Solution
  - Floor Standing Air Conditioner
- Renovation of Conference Room

a new video wall, video conferencing system, provision of two floor standing two 2-ton air conditioner units and overall renovation work of Committee Room of Ministry of Railways, 4th Floor, Block-D, Pak. Sectt,

- Single-Stage-One-Envelope-procedure will be followed. The interested parties will submit the technical and financial proposals completed in all respect on or before 15th October, 2020 till 12:00 hrs in the office of undersigned.
- The bids will be opened on the same day on 12:30 hrs in the presence of the bidders. In-complete and late submitted tenders will not be considered.
- The bidder will provide the material as per conditions and specifications mentioned in the tender documents
- The bidder will be required to submit a payorder / Call deposit/earnest money for an amount equal to 2% of the total
- Tender documents can be purchased @ Rs.250/- only per set from the office of Assistant Director/B&C during office hours on or before 14th October,2020 till.

لا ژکانه : کسان خواتین روایتی انداز مین جاول کی تقریشنگ کردهی تین

م اضافہ ، 115 کے بھاو ام رے اکاروباری مجم

زتك محدودربا جوكزشته ا كه44 بزارشيئرزكم ب ت 174رب 29 كرور 91 رور 91 كرور

ری جم کے کاظ سے ك الكثرك، ياك انثر

ت وتحارت کے

کی پرایوارڈ تقریبہ وان صنعت وتنجارت زین کارکردگی کا مظاہرہ کا اجتمام کیا گیا۔صد رارت مين وفاقي وصوبائي

ہوئے اورسر کاری محکموں جر برادری کے سائل طل ورتعاون كيا حميابالخصوص ی اداروں کی رہنمائی اور يراختياركرنے اور سخق فاون کی فضاء قائم ہوئی۔

رجيداولكه، ۋيىڭ ۋى ايس ق ميتر علم بيرسر ارسلان اوديگرنے شرکت کی۔

8/رويم رش سونے اور جائدی ات کے مطابق عالمی ويين اضافے كارتجان رفی اونس کے اضافے .1887 ۋالرتك تى كى افے کی وجہ سے مقامی لى قيمت مين في توله ہ میں آیا جس کے بعد - لاك 12 بزار 100 کی قیت 686روپے

ي في تولد ك اضاف وں ویچلوں کی

نفر دخيمه منڈي

ار 108روئے ہو گئی

تقر کے ہاسیوں نے پہلی اتے کی روایتی سبزیال كروية بين جوملك بيس الخفركراستول يرجل فائم بيذهمه منثري سياحول ہم مرکز بن ہوتی ہے۔ ن بائى پاس روز بھا تكاريو

ماركيث سے روزاند تخر پنے کیے مقامی روایق پنے

كبرريون چانصيون الميئ مريزولل مجمور کی عموی دستاویزات کی توثیق کی جاسکے۔

كمييوثرائز دقومى شناختنى كارداورزكوة 4\_ ممبران کے کمپیوٹرائز ڈ تو می شاختی کارڈ کی کشل جمع کرانے کی استدعا کی جاتی ہے تا کد یکارڈ کواپ ڈیٹ كياجا مك كييوارائز وتوى شاختى كاروكي قل دجيح كراني كاصورت بين ستقبل كحقام منافع معقسه روك لخ جائيس كے۔

5۔ ممبران سے اعتدعا کی حاتی ہے کہ ووز کو ۃ اورعشر آرڈیننس 1980 کے مطابق زکو ۃ ہے استثنیٰ کا بیان جمع كرائي إيشين تبديل تجويز كريل الريوتو-

سرکاری اندران یافتہ کپنی ہونے کی صورت میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سکش 242 کی روے صف واران (شير بولار) بين منافع كي تقدادا تيكي صرف اليكرا تك طريقه كارك ذريع براوراست اين نامزد كرده بينك اكاؤن ش كرسك إلى - اى في نوس بذاك ذريع تمام صص داران كومطلع كياجاتا ي كسينزل ۇ ييازىرى مسلم بىن متعلقە درخواست دېندگان اپنے انفرنيشنل بينگ اكاونىس (IBAN) كى تفصيلات كواپ ڈیٹ کریں۔ بادی مصص (Physical Shares) کی صورت ٹی اینے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات بهار مصص (شيم ) رجسٹرار بميسرزرياست اشتياق كنسطنگ (پرائيويث) كمينڈ كومهيا كريں- (خصص واران کے لئے)ای۔ وور فرمیندیث فارم شلک کیا گیاہے۔

فانفراورنان فانفركا سثيثس

ا- الميس آرؤينس 2001 يسيكش 150 كم مطابق بس المينول كي جانب اداكى وافي والى بالیت برمنافع کے ود ہولڈنگ فیکس کی کٹوٹی کے نرخ وشع کئے گئے بیں فیکس کے افراخ مندرجہ ذیل

> المفيكس ريزنز فالرزكيلية 15 فيد الكَمْ فَيْس ريزنز نان فائلرز كيلية 30 فيصد

كين كوباليت كوفن 30 فيعدك بهائ 15 فيعدك حساب عاقد منافع منقسم Cash) (Dividend يرفيس الوقى كالل بناف كيك ان جمام عسم داران جن كانام بفيس قائل موق کے بادجود ایف لی آرک ویب سائٹ پر موجودا کیٹوٹیکس پیزلسٹ (ATL) ٹی موجود ٹھیں ہے، کو بات يقينى بنانے كى بدايت كى جاتى ہے كدوه 27 كتوبر 2020 كومنعقد مونے والے سالاند عموى اجلاس میں تقدمنافع کی مظوری کی تاریخ تک یاس سے قبل اینانام ATL میں درج کروالیں بسورت دیگرنقدمنافع بر15 فیصد کی بھائے 30 فیصد فیکس کی کوئی کی مائے گ

مزید برآن، فیڈرل بورڈ آف ریونیوک موصول شدہ دصاحت کے مطابق ود بولڈ مگ فیکس کا تعین علیمدہ علیحدہ حصص داران کے فاعلر/نان فاعلر عونے کی بنیاد پر کیا جائے گا۔مشتر کدا کاؤنٹس کی صورت میں بھی حصص کی مناسبت سے یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا۔اس سلسلے میں تمام حصص واران جو مشتر کے طور پرحصس رکھتے ایں وہ اپنے حصد کے تنامب کے بارے میں جارے مصص رجسطرار کو ورج ذیل کے مطابق فراہم کریں (اگر پہلے فراہم نہیں کیا)

Company Name	Follo/ CDS Account No.	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder	
			Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC No.	Proportion

ii کسی بھی قسم کے استفدار رفتایات رمعلوبات کی صورت بین سرباید کار کمپنی یا شیئر رجسٹر ارسے مندرجہ ذيل فون تمبريااي ميل ايدريس كرور يعد ابط كرسكتا ب-地は大きはBIAFO

18t قدر، BIAFO وس، باك تمر 23، كي غير 40-38، آني ايد في سينر، سيلر 10/4-G، اسلام آباد، يا كستان-+92-51-2353450-53, 2353455-57

92-51-2353458+:04

ويساك: www.biafo.com 

رياست اشتيال كنسلفتك (يراتيويث) لميثله

آفس نمبر 20-19 ، سكنش فلور، بل ويويلازه ، جناح ايونيو، بليوايريا سلام آباد ، يا كستان -فون:+ 4-2344223 51 2344223 92 فيكس:+ 92 51 2605658

iii کاؤنٹس کے مامل کار پوریٹ حصص داران کیلے پیشل فیکس تمبر (NTN) مونالازی ہے جوان کے متعلقہ شرکت کنندہ کے ساتھ اپ ڈیٹ ہوجبکہ فریکل شیئرز کے حامل کارپوریٹ مجران اینے NTN سر فیکیٹ کی اُل کمپنی یا اس کے شیئر رجسٹرار میسرز ریاست اشتیاق کنسلنگ ( پرائیویٹ) لمینڈ کوارسال کرناضروری ہے۔ حصص داران اپناNTN با NTN سرشفکیٹ بھیجنے وقت، كسي يحى صورت يس كيني كانام اورقو ليوفير ضرورورج كريل-

كينيزا يك 2017 سيكن 244 كافت بناءروي ياغيراداشده رقم كابيان

سكيورفيزايد المجيج كيش آف ياكتان كرسكش 244 بمدسيكش 510 آف دى كمينيزا يكث 2017 تمام كمينيول كوبدايت كى جاتى ب كفيم يا كاؤنش جوجى بول جومقرره تاريخ يتن سال تك بناءكس دعوى ياغير ادا شده بهول اور دیگر کسی انسشرومنٹ یا رقم جو بنا، دعویٰ یا غیر ادا شده بوکمپیشن کو بذریعه ای سمروسز پورظل \_\_\_\_\_(https://eservices.secp.gov.pk/eServices/)

بذر بعد نوٹس بذا حصص واران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ایس ای بی نے سے مکم نمبر 2017 of 16 ہتاریخ 07 جوالاً 2017 کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے اس اشتہار کی اشاعت کے 101 م کے اندر بنا و دوی شدہ منافج منقسر احصص کے بارے میں کمینی ہے رابطگریں عصص داران سے درخواست ہے تھی بھی بنا ہ دعوی شدہ منافع منقسہ یا غیر موسول شدہ حصص (اگر کوئی ہول) تو اس ملسلہ میں کمینی کے دجسراؤ پید پر رابط کریں۔ before 14th October,2020 till.

Ministry of Railways (Railway Board), Islamabad reserves the right in its sole discretion to accept or reject any or all bids without justifying any reasons thereof, without incurring any legal liability to Ministry of Railways, Islamabad.

> (WARIS ALI) Director / Administration Ministry of Railways

Room No.427, 4th Floor, D-Block, Pak Secretariat Islamabad Ph:051-9205154

PID (I) 1699-20

روبرو: جناب خالد حسين شاباني جج صاحب بعدالت ومركث وسيشن فيح كراتي السك ايس ايم الم الم 2020 مال 2020 م درخواست برائ سلسيفن سرفيقكيث

زيردفعه 372 ياكتان سكسيشرا يكث 39 مجريد 1925ء مرحه بخد سراج الدين ولد كريم الدين (مرحيم)... (متوفى) - قو والمصياح عاده محد سراج الدين (مرحوم) مسلم، بالتي ساكن مكان تمير ( 1344 باكسية)، محله رجا جائث شاه فيصل كالوني كرايمي

بخلاف عوام الناس.....مدعا عليهان پختلف: عوام المناس ... بعد حاطلیهان در واب عالیهان از در بات می اگر در بات در واب می الدر وی کی کر در در بات در وی کر در بات کار در وی کر در بات ایک بات کار کرد وی کرد بات در وی کرد بات ایک بات کار کرد وی بید دو بات کار کرد بات ک

روبرو: جناب خالد حسين شاباني جج صاحب بعدالت دُسرُك وسيشن جي كراجي ايسك ايسس ايم الحكيب د 854 سال 2020 و ورفواست برائي تنسيعن بريفكيث المؤلف المشعريين زرروف 372-278 پاکستان سکسیشنز ایل 296 کم یہ 1925ء مرحوم کم کمن ولد غیاد تحسن (مرحوم) ... (عوثی) ۔ سمانت شازید خاتون 15 دیم اس (مرحوم) مسلم بالغ ساکن مکان فیر 81 امریک الله 65. اير يا D/1 والارشي كالوتي كرايي .... (الميشر)

امر ۱۹۵۰ (۱۳۵۰ (۱۳۵۰ ترکی) (میسر)

اید کلف عدام امناسی مده ما علیه های 
درگات برای امراد به امراد برای امراد با امراد به با اماره اماره امراد با ا 08:00 بي مقرر سے معرفين ورقوات كرا سے فق على سكنديشن مرفقات ليو آف ايد شفريش مقود جوئے سے پيلے عدالت بلا من جا هر جوكراس عقد سے جوہ يون كريں۔ ورشاعم فرفيسا كرويا جا تاگا۔ ير سے دھخا اور جو عدالت كہا تھے 2020-2099 كوبار كى جوار بحكم...سرفتددار

بمر حرالت عدات ومؤك اينوسيش فاكرا بحاايسا

روبرو: جناب خالد حسين شاباني جع صاحب

#### بعدالت عاليه سنده بمقام كراجى

كِتُواكِلُ لِم 115 إِنْد 2019

عد على (حولي) يتوسط تانوني ورعه.... اين گذاران ي من (حيول) جوره قانول ورهايسس الكل الدامان بيدا في من الرائيسيور (حق في الإصلاق في دها بسب الجال الرواق به منافر الله الإسهامية وهو في الموسود في جورها لمساح الموافق به منافر الله الإسهامية وهو الإسهامية الموافق ال ر 2003 میں 1908 کے کہنائے میں پر پر بچھ 1908 کے دولہ 2000 میں بھٹر نامی والی کے ایس اور مجاری کیا گیا گیا تھی کے مسئور میں کہا کے طریقہ عمل آپ پر میرڈ میسل کی تاہم آئے میں کام وہ دی کیا اس اور کا میں اور انداز کیا ہے کہ اور انداز کیا کہ اور انداز کیا کہ کہنا کہ کہنا کہ میں کہا تھی میں کہنا کہ کہنا کہ میں سے المادات کے مارک کے ساتھ کہا کہ دکھا کے موسلے کے ساتھ کہا کہا جس کا جائے کہا ہے کہا ہے۔ اگا تعدد میں مارٹ کے ساتھ کہا کہ دکھا کے کو موسلے سے آپ د بروران کے بیور رپیدران کا در بیدان کا دران کا بات کا بات کا ایک دلیا کے اور سات کا ایک دلیا کے اور سات کا ای انگار دار بازی کا بیون کی 3.30 کی بھارت کی کا بیون کی مارل کا بیون کی مارل کا بیون کی مارل کا بیون کی مارل کا مارک کا است کر کی بات کی ادارات کی گئی جامل می کا ماک کی کا بیون کا کا بیون کا بیون کا بیون کا بیون کا بیون کا ب

و کیا۔ (و تعلق اللہ است باسل ( مرا ار اللہ ( علیہ ( علیہ ) ) میر عراق کراچی، مور دی : 26 رکتبر ( 2020 م

بعدالت عالب سنده بمقام كراجى

(ئىستىمىندرى اينداندىستىد جيورسدكشن)

للسيفن متفرق ورخواست نمبر 293 بابته 2020

درمعا لمد برائے متحوری بابت لیٹرآف ایڈ شنر پُفن بھمن اٹا ہ جائے اُفیرمتق لہ الماک مملوکہ متو فی طا برسعود ارباب ولدسعود کی

عوام الناس كواطلاع

شاه جادید بود طابر مسود ارباب مسلم بانی مکتر کریک و متا لریک شاید نیمر 1102 بال H. فیر DHA، VIIL کردیگ

ر درخواست گزار) - مندرجه بالا درخواست گزار لے مندرجه بالا حق الله کے کموکر اعلی جائے اللہ موقع کو جائیداد کے حمن ملی لیز آف پیر خدخه بیش کی منظوری کیلئے مسیعی ایک 252 امل وفید 228

قبت پئیش وائر کی ہے جس میں اعدما کی گئی ہے کدمتوفی کرایتی میں

ں پار پر سے اور اور الاروں الاروں الاروں پ کی مورندگر دور قوارت کا اراض کا دور کا بالے مصالف کے اور اس موالف مورند 11 کو بر 2010 کو باروٹ کا بروٹ کا بروٹ کے دوروڈ پٹی جسٹوار اوروٹ کا انٹر بر 2010 کو باوٹ کا موروٹ کے دوروڈ پٹی جسٹوار اور چکل سائٹ کی براے مجلی موالی اعتراضات (اکر کوئی موان) مقر رکیا

کیا ہے۔ ایسے تنام افغاص کو جومنونی طاہر سعودار باب کی اطاک علی کسی مقاد کے داویدار ویں، مطاح کیا جاتا ہے وہ لیٹر آف ایڈ مشریش کی

ی مقدر کے دوراری، ان کیا جائے وہ عزار کا ایک انتظار کے اور میران کا انتظار کے دوراری کا کہا کہ انتظار کیا گئی میاری کے درون کر دوران کی بالان سے کی کال کے کے اپنے چاہ کا عماری کرانے میں کا کی صورت میں کہا ہے دولا کا کے ک فورم کے جائے کے ستو جہ ہوگئے۔ آئی مورد 28رمجر 2800ء کم

حسب الحكم ..... (وريخط) ميرعدالت اسلند وشرار، كرز كيوش وتقرق براغ

الت بذاكي مراور مرك بأقول جاري كيا كيا-

ر بائش يذير تف اور2018-04-04 كرايي في القال كرفي ا

رباب حال المائك بمقام كرايي

ايس ايم ايد اس 1001 سال 2020ء درخواست برائے تکسیفن مرفیقکیٹ، لیژا ف ایڈ خشریش زيرد فعه 372-278 ياكتان سكسيشنوا يكث 39 مجرية 1925 م سروم بيدا ظهر كل ولد ميدا حرفل ... (حتوفي) به بيدها بدخل ولد بيدا ميدا على مسلم ، بالغ مه أن فليد فهر 16 ، بلاك 16 ، كامران اليسليطين كلش اقبال كرديس ... (يليفسر) بخلاف عوام البناس.

بعدالت ومركث وسيشن فيح كرا جي ايث

بعد العداق المناس . بعد عا المدافعان و بدرا توقى أن قر شد جا المدافعان و المؤاف أن المدافعات (موقى أن قول أن قر شد جا و المدافعات و المدافعات و المدافعات و المدافعات و المدافعات و المدافعات المدافعات و المدافع بحكم...سرشتردار

المر حدالات عدالت وموكف اليذبيشن ع كراري ايسك

#### يعدالت عاليه سنده بمقام كراچى

(ئىسىئىمنىئرى ايند انئىسئىك جيورسدكشن) سيف متفرق درخواست فير 294 بايد 2020

ورسالمد برائے منظوری بایند لیز آف اید شدر یکن المسمر جات اخیر منقول جائداد کملوکر منوفی سلیم عقود ولد مرجم عبدالنفود حال الحاک برنتام کرایکی

عوأم الناس كواطلاع

اجر عبد الفقور ولد مرح به بليغ فقور المسلم بانق مستند ما الله مجر 49.6.

باك - كا بي الانجازي التي الرائع الله و (ورقوات تدار)

باك - كا بي الله متوفى محمول الله بليغ الله بالدول من الله بليغ الله بالدول محمول الله بالدول محمول الله بليغ الله بليغ الله بليغ الله بليغ الله بالدول كا يستند الله بليغ الله ا ک گئی ہے کہ موتی کرائی میں رہائش پذیر تھے اور 2018-08-19 کرائی میں اقال کرتے اور اب یک متذکرہ ورخوات گزار نے موتی کے فرزید ہونے کے نامط لیفر آف يد شفريش كى منظورى كيلنة وموئى دائر كيا ہے۔ اب بالا معاملہ 11:5 تابر — 2020 كوفتح 10:00 يج زورو ذياني رجسترار (اور ييل سائد) برائے طلى عوامى اعتراضات (اگر كوئى مول) مدالت كيماتي 29رتير 2020 مكوجارى موا

عدب (لعلم ... (ومنغط) سعد دجواره الجزيكية والانتقال بالأ



Note:-

برعدالت)

بمر مدرات ما الت ومؤك اليذبيش ع كراتي ايس

#### بعدالت عاليه سنده بمقام كراچى

(نيستيمنٹرى اينڈانٹيستين جيورسڈكشن) سيشيش مترق درنواست نمبر 295 بايد 2020 معامله برائ منظوري بابتد ليفرآف ايدمنسريش بضمن اثاث ورن بابد يو الما المستمرين الثاني جات الفير منقوله جائيراد مملوكه منوفى حاتى عبدالعطيف ولد حاتى اساعيل حال الماك بمقام كراحي

عوام التاس كواطلاع

علی المسائل مقد الصافح علی معلام المسائل مقد الصافح علی المبلی سلم بالا تحقد مكان فیمل المبلی المبلی المبلی المبلی المبلی معلی المبلی المبلی المبلی معلی المبلی ال الورى كيك مسيعن الحمث 1925 كى دفعه 278 كاقت بيم دائری ہے۔ جس بٹن استدعا کی گئی ہے کہ حوفی کراہی بٹن رہائھ پذیر مخصاور 2020-16 کوکرا پی بٹن انظال کر گے اور ا كە مىندار درخواست كزار نے متونی كفرزىر دونے كا بالط ليغ ۔ آگ ریڈ شعریفن کی متلوری کیلیے وقومی والڑکیا ہے۔ اب بالا معالمہ 15کور 2020 کو 10:00 ہے دوروڈ بٹی رجسٹر ارز (دوریفل سائڈ) پرائے علی عوامی اعتراضات (اگر کوئی جول) مقرر کیا گیا روم کے جانے کے مستوجب ہو تھے۔ میرے وستخط اور مہر عدالت كيماته 29ركبر 2020 وكوجاري موا

مس (لعلر (ويغلا) اسلندرجسوار، الكريكيوش ومتفرق برائح



أمريرو لل مجيمة

ع ميها' پيون' كودُ عير

رتے ہیں۔۔ تقری

ن میں پیدا ہوتی ہیں۔

Civil Service its area dev

CIVIL EN projects. The on review o especially in on modern be preferred

ACCOU with reputa filling.

Interested Only shortl Civil S



#### Northern Po Thermal Powe

Manager (Supply Chain)

### DISPOSAL TENDER NOTION

TENDER NO.	DESCRIPTION OF ITE
D-SC-13	Disposal of Scrap Unserviceable Ma lying at Store Un NPGCL, GENCO-II Muzaffargarh
D-SC-14	Disposal of Scrap Unserviceable Ma lying at Store Un 5&6, NPGCL, GEN TPS, Muzaffargar
D-SC-15	Disposal of Scrap Unserviceable Ma lying at Store Uni NPGCL, GENCO-II Muzaffargarh.
D-SC-16	Disposal of Scrap Unserviceable Ma lying at Store Un NPGCL, GENCO-II Muzaffargarh
FLICIBILITY OF	1 Tondor will

**ELIGIBILITY OF** Tender will mandatory. CONTRACTORS Each Tender NPGCL, GENO Pay Order of If any bid fou TENDER FEE:-Rs.1000/- Each T (NON-REFUNDA)

> THE BIDS SHALL (AS PER PPRA RU

Other details are availa

Chief Executive Of

روز نامه جنگ راولپنڈی پر ھو 30 متبر 2020ء کی ا

#### TENDER NOTICE

tations are invited by the Chief Medical & alth Officer, Pakistan Railways, 105-Allama al Road, Lahore near Railway Cairns Hospital, Lahore for supply of medicines on daily basis for a period of one year from the well reputed and financially strong firms/contractors giving maximum rebate / discount. CDR for Rs. 1,00,000/- (Rupees one lac only) in the name of "Chief Medical& Health Officer, Pakistan Railway Headquarters Office, Empress Road, Lahore" must be attached with the quotation which will be returned to the firm/bidder in case of non-acceptance of quotation. Quotations must be received in this office upto 27th October, 2020 (Tuesday) at 10:30 a.m. and on the same day at 11:30 a.m. quotations/tender will be opened in the office of the under singed by the nominated presence the contractors/bidders or their representatives.

PPRA rules will be observed while processing this Tender. Copy of terms & conditions can be got from this office on any working day and hours on free of cost.

#### ( DR. MUHAMMAD ZAHID )

Chief Medical & Health Officer,
Pakistan Railways,
105-Allama Iqbal Road,
Near Railway Cairns Hospital, Lahore
Ph: 042-99201745



شنیر ھولڈرز کے32 ویں سالانہ اجلاس عام کیلئے ممبران کو نوٹس

پذر بدونوس بذا مطلح کیا جاتا ہے کہ BIAFO انڈسٹر پر المیٹر کا32 وال سالان اجلاس مام بتاریخ 27 اکتوبر، 1020 بوقت 11:00 ہے مح 18 افلور BIAFO ہوئیں، پلائے نمبر 23 گلی نمبر 40-38 ، آئی اینڈ ٹی سینٹر، سیکٹر 40/10 - 1 اسلام آبادیش ورج نوبل امور کی اعجام دیں کیلئے منطقہ ہوگا:

#### عمومىامور

- 1- سالانداجلاس مام معقده 24 اكتوبر 2019 كمنش كي توثيق
- 2- 30 جون 2020 كومكس مونے والے سال كے آؤٹ شدہ اكاؤنٹس بح فرائر يكفرز اور آؤينززك رور واللہ من اور آؤينززك
- 3- 22 تتبر 2020 کو اعلان کردو تی فقد منافع مقتصد 1.00 روپ فی شیئر (10%) اور 23 اکتوبر 2019 کو بر 2019 کو اطلان کردو عبوری فقد منافع مقتصد 1.50 روپ فی شیئر (15%)، 188 فود یک 2020 کو اعلان کردو عبوری فقد منافع مقتصد 1.50 روپ فی شیئر (15%) مجموعی طور پد 2020 کو اعلان کردو 10 فیصد بیشول 22 تتبیر 2020 کو اعلان کردو 10 فیصد این شیئر اور 18 فروری 2020 کو اعلان کردو 10 فیصد این شیئر ناسطری 30 جون 2020 کو کلیل کردو 10 فیصد این شیئر ناسطری 30 جون 2020 کو کلیل کردو 10 فیصد کیکل ہوئے والے۔ ال کے 20 فیصد کیکل علاری ۔
- - 5- چیزین کا جازت عدینگ بی رکھ جانے والے بھود گر امور کی اعجام دی کے لیے۔

بحکم بورڈ خواجہ شائق تنویر کہنی بکرڑی

اسلام آباد، معرفد: 22 ستبر، 2020

1- کین کی فیر منتقا کی کتب 19 اکتوبر 2020 تا 27 اکتوبر 2020 (بشول دونوں ایام) بندریش گ 
اجلاس بذائیں بٹن شرکت افوادو دیے کا احتقاق رکھنے دائے ام براٹی جگہ کی دوٹ دیے ادرشر کت

کر نے کے لیے کئی دوسر مے مجبر کو اپنا پرا کی مقر رکز سکتا ہے مقر او تھی کو مطالبہ پال پر بولیے اور

ووٹ کرنے کے دوی حقوق حاصل بول کے بچر کیم کو حاصل ہوتے ٹیل ۔ پرائمی کے میڑ ہوتے کیلئے

مزودی ہے کہ مہر شدہ دو بحق شدہ اور گواہی کے ساتھ پرائسیو (Proxies) کہنی کے دیشہ فرق آئس


میں میلنگ شروع ہولڈ دریاان کے پرائسی میالا شاجال مام می شرکت کے دقت اپنے تحراہ اصل مثنا تی

ار فرق کی طبع مولڈ دریاان کے پرائسی میالا شاجال مام می شرکت کے دقت اپنے تحراہ اصل مثنا تی

کارفرز یا اپنے تحراہ اصل متنا تھی جائے گائے کی نمبرزہ اکا قائد نے نمبرزہ اعتمال تیں تا کدان مقاصد کیلئے ان

کارفرز یا اپنے درائی کو تقبی کی جائے گائے گائے کہنے نمبرزہ اعتمال تیں تا کدان مقاصد کیلئے ان

ڴٷؽٮڗٵڿٵؾڴڗؖؿڷ؇ڟڡ <mark>ػڡڽڽۿۣڐڔٵؽڒڐۊڡؽۺڹٵڂۺڮٵڔڐٵۄڔۯػۿ</mark>ۊ



#### ضرورت رشته MATRIMONIAL

#### تعليم وتربيت TRAINING & EDUCATION


### واخله جارى ہے

چير گلامز المال ا

## مرورت برائے كينطين كنثر يكثر

#### ضرورت برائے شاف

ایک CTP گرافش فریزائنز جوگورل فراا ڈاپ فوٹو شاپ A جانبا ہوکپیوٹر آئی بیٹر اور آفس بوائے 20 0300-5242894/hafizirada:007@gmail.com (سی ایک کے 1890 0



#### متفرق استاف MISCELLANEOUS STAFF

اسلام آبادیش آیک دارایداری شرورت جویشن کا کام مجی کر لیتا موتم 40سال سے زیادہ اسلام آباد چنزی کی شرکول سے وقت موت خواد سے قابلیت مول 666 665

ى ايم ـ MG\_\_\_\_\_\_ فارز فيلى كيلية باؤس مية تخواه 20 بزاركها داراكش كارشنس شاپ كيلية يلز كراز ديوني سع 9 سيدات 10 بيت كناد 100 براريوا مهاي كيلية دارايور برها كها تجرب كارخواه 25 براركها نارايش 03000334-9528557 يك معرف مخواك ميداني ساله معرف مخواك مورود المستقيم

باڈنگ اینڈکنسٹرکشن BUILDING AND CONSTRUCTION

## AKISTANRAILWAYS

## TENDER NOTICE

OFFICE OF THE
MANAGING DIRECTOR/C.S.F.,
HEADQUARTERS OFFICE,LHR
#042-99201776 FAX # 042-99201783

Managing Director/C.S.F, Pakistan Railway, Headquarters Office, Lahore invites tenders from Manufacturers of the item against following advertised tender.

Adv. Tender No.CSF/736/P/2020.

<b>Description of Material</b>	Quantity
Hex Slit Nut	10,00,000
Hex Slit Nut size 10mm dia as per Drawing and specification.	Nos.

Selling dates = 30.9.2020 to 16.10.2020. Opening date = 17.10.2020.

The tender documents can be obtained from the office of Managing Director/CSF, Pakistan Railway, Headquarters Office, Lahore on cash payment of Rs.2000/- Each (non refundable). Tenders will be dropped in the tender box upto 17.10.2020 & tenders will be opened at 11.30 hours on the same day i.e. 17.10.2020 in the office of Managing Director/CSF in the presence of tenderers. Note: The complete detail of the above tender is available at PPRA Web Site (www.ppra.org.pk) as well as on Railway Web Site (www.Pakrail.gov.Pk).

#### (Muhammad Anjum)

For Managing Director/CSF, P.R. HQ; Office, Lahore, Ph: 042-99201737.



تصحیح نامه بابت اشتهار نمبر 2020/-1

آزاد جمول وکشمیر پیلک سروس کمیش کی جانب سے جاری کردہ اشتہار نمیر 1-/2020 جوکہ شکف روز نامدجات بین شائع مواہے بذیل تھی کی جاتی ہے:- ل (10x25) مد ب (البرك پراپل) 0 3 3 3 - 8 17VL,D/D

AVAILAE

-/55000 دایک په این همی آفس بھی 0300-950

0300-0333-558

لمركبيه 70 بزلوپوژن 20 بزلد پوژن 60 بزلد 0340-7891175

يره و بل سنوري ركبي ريث10 گفر35×70 ر333-5411626

، 6 باتھ، ڈیل کچن اگراؤیڈد بیڈد ہاتھ فلور کرایہ کیلئے خال 0301-53462

COU

کی کورٹ iii ساحیہ رچوعہ 28/10/19 / 1 0 / 3 بنار عنام آسیہ کی کی پوکر و روڈ راولینڈی بالاکوا بڈر الیداشتہار

كى عموى دستاويزات كى توثيق كى حاسك كمييوثرانز دقومى شناختى كارداورزكوة

4- ممبران کے میپوز اور وقوی شاختی کار فری اللہ مع کرانے کی استدعا کی جاتی ہے تا کہ ریکار و کواپ اُسٹ كياما سك كيور الزاقوى شافق كارؤك قل ديمة كران كاصورت بين مستقل كتمام منافع سقيد

5- ممبران سائدها كى جاتى ب كدووزكوة الدرعشر آرؤينس 1980 كمطابق زكوة سائتش كابيان تح كرائيل بإيشين تبديل تجويز كرين الرعوتو-

سركارى اندرائ يافت كمين مون في كل صورت على كمينيز ايك 2017 كيكش 242 كى رو ي مصعى داران (شير بولدر) ايد منافع كي نقد اوائتك صرف اليكثر الك طريقة كارك وريد براه راست اين امز وكرده يك اكاذف يل كريكة بيل- اى لي وأس بذاك ذريعتمام صعى داران كومطلع كياجات كسينرل ا بيازٹري مسلم بن متعلقه درخواست د مبتدگان اپنے انٹرنيشنل بينک اکادنش (IBAN) کی تفصيلات کواپ ا من المن من (Physical Shares) كل صورت عن المن ينك اكاؤن كل تضيلات عارے صف (شیئر) رجسٹرار مصرزر یاست اشتیال کسطنگ (پراتیویٹ) المیلا کومبیا کریں۔ (حص داران کے لئے )ای اور ٹرمینڈیٹ فارم سلک کیا گیاہے۔

فانلرا ورنان فانلر كاسشيشس

i الكريكس آرؤينس 2001 ي يكش 150 ك مطابق من بين كمينيون كي جانب سادا كي جانب والى مالیت پرمنافع کے ود مولائے لیکس کی کٹوئی کروٹ وہٹ کے گئے ہیں لیکس کے افراخ مدرجذیل

> الميكس ريزن فالرزكيلية 15 فيسد الم فيكس ريرفز نان فاعرز كيلية 30 فيعد

كين كواليت كيوش 30 فيدك بها ي 15 فيدك صاب عائد منافع مقد ما الع (Dividend يرفيس كوفي كرة بل بناف كيلي ان تمام عنى وادان ين كانام بقيل قاعر بوف کے باوجود اللہ فی آرکی ویب سائٹ پر موجودا یکوٹیکس پیرنسٹ (ATL) میں موجود نیسیل ہے، کو بيات ينى بنائي بدايت كى جاتى بكروه 127 كتوبر 2020 كومدتد بوف والسالا يموى اجلاس میں فقد منافع کی منظور ی کی تاریخ کے باس سے قبل ایتنام ATL میں ورج کروالیں بعورت وكرتدمنافع ير15 فيعدى عائد 30 فيعدلى كونى كاونى كاجاتى

مزيد برآن ، فيد رل بور و آف ريونيوكي موسول شده وضاحت كمطابق در بولد مك فيكس كالتين عليمده علیده حصص داران کے فاطر/ نان فائلر جونے کی بنیاد پر کیاجائے گا۔مشتر کداکاؤنٹس کی صورت میں بھی صعب کی مناسبت سے بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا۔اس سلسلے بیں تمام صف داران جو مشتر كد طور يرضع ركعة إلى ووايد صرك تناسب كارات عن بمار عص وجسلواركو درج ذیل کے مطابق فرام کریں (اگر پیلے فرام ایس کیا)

	Folio/	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder	
Company Name	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)

أا- كى جى قىم كاستفياد وفكايات رمطوبات كي صورت شامر مايكاركيني إشير رجسطوار عمدد جد ذيل أون فمبريااي ميل ايراس كذر العرابط كرسكتا ي-

かとがはBIAFO

18t قدر، BIAFO إدّى، ياك غير 23 كل غير 40-38. آلَ ايند في سينر. سيفر G-10/4 ، اسلام آباده يا كستان-+92-51-2353450-53, 2353455-57 يس:+48253458 92-51-2353458 سيسانت: www.biafo.com ان عل: management@biafo.com

ر باست اشتیاق کنسلنگ (پرائیویث) لمینله

المن مير20-19 ميكين قلوره بل ويوليازه ، جناح الونيده بليواير بإاسلام آباده بإكستان-نون: + 4-2344223 51 2344223 + يون: + 92 51 2605658

iii- ئۇيى كاكارتىل كىماس كار يورىيە مصص داران كىلىنىشل كىكس نىر (NTN) بوئالارى ب جوان کے متعلقہ شرکت کنندہ کے ساتھا ب ڈیٹ ہوجیکہ فزیکل شیئرز کے مامل کارپوریث ممبران است NTN سر فیکید کی قتل کین یا اس کے شیئر رجسفرار میسرز ریاست اختیاق کنسلنگ (پرائیویٹ) لمینڈ کوار ال کرناف وری ہے دسمی داران اپناNTN یا NTN سرفطیٹ اعظم وقت، كسى بجى عورت إلى كين كانام اورفوليوفير ضرورون كريا-

كينيزا يك 2017 كيش 244 كرفت بناه ووي ياغيرادا شده رقم كابيان

سكور فيزايد أجهج كيش آف ياكتان كيكش 244 بمديكش 510 آف وى كمينيزا يكث 2017 تمام منيوں كو بدايت كى جاتى ب كفيريا كاؤنش جو جى يول جومقررة تاريخ سے يمن سال تك بناء كسى داوى ياغير ادا شده بول اور دیگر سی انسٹرومنٹ یا رقم جو بناء دوئ یا غیر ادا شدہ موکیش کو بذر ایدا ک سروسز پولل \_மிர் & (https://eservices.secp.gov.pk/eServices/)

بزريد نولس بزاصص داران كومطل كياجات بكرايس اى كى في كي عم فير 2017 16 of عاريخ 07 جوالى 2017 کی شرائط کو پیدا کرنے کے لیے اس اشتہار کی اشاعت کے 107 یام کے الدینا و دوئی شدہ منالخ مشر احسم کے بارے میں کمین سے دابط کریں حصص اداران سے درخواست ہے کسی بھی بنا و دوی شدہ مناقع عشمه ياغيرمومول شدة صعى (أركونى بول) تواس طلط ش كين كردستراية بررابط كريك-

1-12020- 1 جو كر شلف روز نامه جات بين شائع موايد بذيل تصبح كى جاتى ب:-

محكمههانيرايجوكيشن

كين نبراك 1/3 (١١١) ] ( (2020-1) ليكروزكس ( إلى اليس 17) (i) نام وتعداد آسای کے کالم میں مندرج الفاظ "سابقه (1) بنی (4) ، تعداد اسامیان (6) " کے بجائے "سابق (2) ، نی (3) ، تعداداسامیان (5)، لکھے اور پڑھے جانیں۔

(ii) ضلق كول كالم ين مندرة الفاظ "ضلى كوط معدورا قراداو بن ميرف في (1)"كومذف كياجاتا ي-

(iii) ضلق کوئے کے کالم بیں مندرج الفاظ معدور افراد او پن میرٹ ماسوائے کوظی سانق (1) کل (2) " کے بجائے "معذور افراد او پن میرث

ماسوائے کوئی سابقہ(1)" لکھے اور بیڑھے جانیں۔

AK 97-NB/9/2020

سيكرثري آ زادجموں وکشمیر پلک سروس کمیشن



### UNIVERSITY OF JHANG

### **VISITING FACULTY REQUIRED** ON PER LECTURE BASIS

Application are invited for short listing of visiting faculty in University of Jhang from qualified, competent and motivated (Pakistani Nationals) for visiting faculty teaching on per lecture basis for the Academic year 2020-21 in the following Departments:-

Sr. No.	Subject	Positions	Eligibility Criteria		
1	English	06			
2	Urdu	04	M.Phil / MS or Equivalent (18 Years)		
3	Computer Science	03	from HEC Recognized University / Institutes OR		
4	Psychology	01			
5	Statistics	01			
6	Persian	01	Master's Degree from a		
7	Physics	01	Foreign University in		
8	Geography	01	relevant Subject.		
9	Crafts and Textiles Design	02	First professional degree (4 Years minimum, First Division) from HEC recognized University/ Institution with no third division in the academic career		

- 1. A draft of Rs. 1000/- as registration processing fee in favour of treasurer University of Jhang, Jhang and original pay order should be enclosed alongwith the application.
- 2. Two most recent passport size photographs should be attached on each application.
- 3. Registration will be valid for one year only.
- 4. Candidates are required to submit written application on plain paper along with complete C.V. and attested copies of testimonials, CNIC & experiences (if any)
- 5. Final selection will be based on recommendations of interview committee.
- 6. Candidate having previous teaching Experience will be preferred.
- 7. University reserves the right not to select any candidate without assigning any
- 8. No TA/DA would be admissible when called for interview.
- 9. Applications complete in all respects must reach the Office of the Deputy Registrar, University of Jhang, not later than 08-10-2020.

**Deputy Registrar** 

University of Jhang, Gojra Road Jhang Ph: 047-9200425

#### **BUILDING AND** CONSTRUCTION

اسلام آباديس مناسبريس يرمكان وكمرشل بلازه ك معیاری کنسٹرکشن کے لئے دابطہ SANA کنسٹرکشن 0333-8773398/051-2304614 JG-15 ----- IR-(615

#### درستگینام **CORRECTION OF NAME**

يرى بين كانام رباب بيك تفاجوكه فلط بهاب تبديل كرا كرمكان بيك ركوليا ي تنده اى نام كالعااور يكارا جائے اور تمام ریکارڈ میں در تکی کی جائے والدع زیز بیک -- (319010-E15)

#### ضرورت گاڑی **CAR REQUIRED**

میں مخلف کمپنیوں کیلئے سالاند ایگر بینٹ پر منداہ جی ایل آئی، کلش اور جایائی آلٹو درکار ہیں 0306-4888378 --- (318900-FIG)



#### تلاش كمشده LOST AND FOUND

میری بیٹی کی وگری فرانسکر یف فار لی اے اوٹرز صول وين رجمر يش نبر 2234fu/ba2003 الم مولى ب ملغ يريبنوادين جوبدرى غلام مجيدولد جوبدى مىرزىلن دكان تبرر 3891 كمك والكارش يت يتي جواد واليندش --319008-615) مِين مُحِد ناصر ولد مُحِد يعقوب ، شاختي كارؤ نمبر : 37405-0572590-3: يرك بر 4728 ما 30x600 شريت نبر 182 بلاك الكالبرك كرين المام آبد (رصر بيش فبر GRS24276/1131 کاریخبر كاغذات جس من أيك عداد يجنل الأسن لينزاو الك ويجل يورش ليزور الان ويمت كى رسيد بمعرض شده السامون كى رسيدي جوكدوون سفر اسلام آباد يس كيس كم الموكى بين ملغ يراطاع دي مراطه 0323-5090560 ميرايلاف واقع مريناوك ففره بالمف فبر 1002 رصريش بر IDE-3081 علايش كالأمن الم وكياب طن ياطلاع كرين 5999960-0333 مراليكشن ليغر DHA باليندى فير 4-SIV/01408 بنام لفليك كرال شفقت تيوري كا اللوكيش ييزم وكياب طن ياطلاع كرين 6574213 -(319106-615 يرى بريد يونوري BSc ك والري Res-10136 دوران سفرسبال کہیں کم ہوگئی ہے ملنے پراطلاع کریں حثام عمر والدراج متاز احرفيم 5558146 (ى ايم - 318670)- -كارى نير AMF-491 كا -لمث كارة باول 2015 ي من نم GMU-1018178 ودران خركم بوكيا بيماكر ی کو ملے تواس ایڈریس پراطلاع کرے ہاؤس 10 کین 0302-5035554 JULY DHA-2, B # 13 (ى ايم - (318689 - (3) يرى كازى 1988 - HDE الله 1988 سفوكى FX ايحن 365093 وير 169988 كالس روزيش بك كم كل ے ملغےرمکان1860 محلَّماف كريائي العاليندى

---- (318894-415)

وكره رود راوليندي لاكوا بذريعه أشتهار DINTS 3/10/2 بيروى مقدمه كري لرفه قانونی کاروائی وستخط ومهرعدالت

باحب أسحاد فمبر مقدم م وخر مرزالعيم على بيك باليمول روائهمائك مرحمة زمان كندحال أسمو ونوان بالاض سأنكف عليهم بالأكوبذريدافبار का में का में कि ات بذاش فيش كري

اقبال صاحب لي استقرار حق ولد ول محمر متونی محلی نبر 3 محله ليندى (سائل) ں نے درخواست میں گزری ہے الأيا وكالأ مورخه ماضر عدالت آویے ل مين لائي جاليكي

ي استقرار حق ولد عبدالعزيز لائن قبر 2 ام الناس بر گاه وال بالا عدالت ) كو اعتراض مو تو

. 12 - 10 بوتت

وے ورنہ کارروائی

ل لائي جائيگي

DISIN

مانى ابني منقوله وغيرمنقوله ب اس کے کی آول وقعل محدرياض ولدعلى كوبر

اح واه لينث يمعزز قابل قدر كالمنش ہے کہ چھٹل بنگ آف

نى بلنگ نبر C-353 كالالداخ قبرستان روذير ے جملہ حضرات او شفر ما ولالدرخ برائج واه كينث

## Different companies

# FBR busts counterfeit cigarette cartel

ISLAMABAD: The Federal police in Abbottabad and on tobacco companies to damage off Morven brand). which has caused revenue loss Tobacco Company Limited. to the tune of billions and disadvantageous position.

sion of Rs 15.4 million by seiz- action under the law, it said. ing 730 cartons of 7.3 million illicit cigarette sticks from two revealed that an illegal manuloaded trucks on a tip of infor- facturing unit, established in

documents, the consignment marks and copyrights. The destined taxes in violation of the rules Pakistan nor the FBR. and regulations, evading cumulative taxes of Rs 15.395 million, the document said.

local Khyber Pakhtunkhwa well established brands of other

Board of Revenue (FBR) has search recovered the illicit cig- their goodwill that is created busted counterfeit cigarette car- arettes of More One brand after investing millions of have requested the FBR to seal tel of different companies, manufactured by Wayward rupees by these legitimate premises of the company and

The FBR has seized the non-ments said. putting documented industry at duty paid cigarettes along with the vehicles under section 26 of Sources told Business the Federal Excise Act 2005 Recorder here on Tuesday that and were moved to the main facturing counterfeit cigarettes, the FBR has unearthed tax eva- office for further necessary and it is still facing charges of

Moreover, the documents Buner was involved in the According to the official infringement of different tradefrom company is neither registered without payment of duties and Exchange Commission of

It has also not declared its More One (which is passing machinery used for the manufacturing of cigarettes, which is A surveillance squad of the mandatory under Federal FBR's Directorate General of Excise Act and corresponding Intelligence and Investigation rules. Similarly, they have also said that they took two trucks not registered a single brand on in custody with the help of the their name rather they are using

past had remained sealed by the FBR on account of manutrademark violations in lower courts in Buner. In addition, the Dar ul Qaza had prohibited Summer Tobacco from manufacturing illicit cigarettes but they continued to do so in clear violation of the court's order.

Instead of getting registered Muzafarabad to Rawalpindi with the Securities and and paying legal taxes, they continued illegal production of cigarettes under brands namely

The relevant stakeholders tobacco companies, the docu- confiscate its machinery at the earliest, in order to avoid any The Buner company in the further damage, both monetary and goodwill, to the registered brands of legitimate cigarette manufacturers and to protect the revenues of the national exchequer collected by FBR in lieu of different taxes levied on the production of cigarettes in the best public interest.

In addition, the FBR documents revealed that three companies are in collusion as regards manufacturing and illegal removal of one brand of cigarettes without payment of duties and taxes. -SOHAIL SARFRAZ



#### **BIAFO INDUSTRIES LIMITED**

#### NOTICE OF 32ND ANNUAL GENERAL **MEETING OF SHAREHOLDERS**

Notice is hereby given that the 32<sup>nd</sup> Annual General Meeting of Biafo Industries Limited will be held on October 27, 2020 at 11:00 a.m. at 1" Floor, Biafo House, Plot No. 23, St No. 38-40, I&T Centre, G-10/4, Islamabad, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

To confirm the minutes of Annual General Meeting held on October

To receive and adopt the Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2020 together with Auditors' report and Directors' report thereon.

To approve the payment of final cash dividend of Rs. 1.00 per share (10%) declared on September 22, 2020 and also the interim cash dividends of Rs. 1,50 per share (15%) declared on October 23, 2019, Rs. 1.50 per share (15%) declared on February 18, 2020 making a total of Rs. 4.00 per share (40%) cash dividend along with 10% bonus shares declared on September 22, 2020 and 10% bonus shares declared on February 18, 2020 making a total of

20% bonus shares for the year ended June 30, 2020.

To appoint Auditors for the year 2020-21 and to fix their remuneration. Retiring Auditors M/s KPMG Taseer Hadi & Co. Chartered Accountants being eligible offer themselves for reappointment for the year 2020-21.

To transact such other business as may be placed before the meeting with the permission of the Chairman.

Islamabad: September 22, 2020

By Order of the Board Khawaja Shaiq Tanveer Company Secretary

Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 19, 2020 to October 27, 2020 both days inclusive.

A member entitled to attend and vote at the meeting shall be entitled to appoint another person, as his/her and proxy to attend, demand or join in demanding a poll, speak and vote instead of his/her and a proxy so appointed shall have such rights, as attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member. Proxies in order to be effective must be received at the registered office of the company not later than 48 hours before the meeting duly stamped, signed and witnessed. A proxy need not be a member of the

CDC Shareholders or their proxies are required to bring with them their original National Identity cards or Passports along with the Participant's ID numbers and their Account Numbers at the time of attending the Annual General Meeting in order to authenticate their usual documents required for such purposes.

For CNIC & Zakat

Members are requested to submit a copy of the Computerized National Identity Card (CNIC) to update our records. In case of non-







#### TRANSMISSION OF ANNUAL REPORTS THROUGH WEBSITE

Unit holders of Atlas Money Market Fund (AMF), Atlas Sovereign Fund (ASF), Atlas Income Fund (AIF), Atlas Stock Market Fund (ASMF), Atlas Islamic Income Fund (AIF), Atlas Islamic Stock Fund (AISF), Atlas Islamic Fund of Funds (AIFOF) and Atlas Islamic Dedicated Stock Fund (AIDSF), managed by Atlas Asset Management Limited (AAML), and the participants of Atlas Pension Fund (APF) and Atlas Pension Islamic Fund (APIF), of which AAML is the Pension Fund Manager, are hereby informed that the audited financial statements of AMF, ASF, AIF, ASMF, AIF, AISF, AIFOF, AIDSF, APF and APIF for the year ended June 30, 2020 have been placed on the Company's website address www.atlasfunds.com.pk and may be downloaded therefrom.

Unit holders of AMF, ASF, AIF, ASMF, AIF, AISF, AIFOF and AIDSF, and the participants of APF and APIF, requesting for a hard copy of the above financial statements shall be provided the same accordingly, within one week of the receipt of a written request at their registered addresses.

For Atlas Asset Management Limited

Dated: September 30, 2020

Company Secretary

Atlas Asset Management

Ground Floor, Federation House, Sharae Firdousi, Clifton, Karachi-75600. UAN: 111-MUTUAL (6-888-25) Ph: (92-21) 35379501-04 Fax: (92-21) 35379280 Website: www.atlasfunds.com.pk Email: info@atlasfunds.com.pk



#### SPECIAL BRANCH SINDH

In accordance with Sindh Public Procurement Rules 2010, amended 2019), the Police Department, Government of Sindh, Special Branch Sindh invites tenders from Suppliers / Firms registered with FBR / Income Tax Department for the procurement of following Dogs Feeding Items, Medicine & Other Items for the Canine Unit, Special Branch, Sindh, Karachi.

S#	Name of Items	Estimated Cost		
	DOG FEEDING ITEMS			
1	Special Dog feed	360 Bags	Rs. 4,140,000/-	
2	Beef Meet (Qeema)	2187.5 KG	RS. 1,750,000/-	
3	Vegetables	Rs. 245,000/-		
4	Rice	Rs. 105,000/-		
5	Milk & Yogurt	Rs. 894,250/-		
	MEDICINES, VACCINE	S & OTHER ITE	MS ·	
1	Medicines & Vaccines	Rs. 705,874/-		
2	Other items	Rs. 322,800/-		
Tota	l Estimated Tender Cost	Rs. 8,162,924/-		

#### INSTRUCTIONS:

- Single Stage One envelope Procedure will be adopted for the tender process. Each Bid shall comprise one single envelope containing the Financial Proposal and required information mentioned in Evaluation Criteria of Bidding Documents.
- Interested suppliers / firms may obtain the tender document from General Branch, DIGP/Special Branch Office, Kemari Police Complex, near Jackson Police Station, Karachi contact person ASI. Arshad Naeem Bhatti, (0333-2322978). Office Phone No. 021-99263158 by submitting an application on their letter head alongwith tender Fees Rs.2500/- from 30-09-2020 to 19-10-2020 (0900 hours to 1700 hours).
- 3. Sealed envelope on prescribed Performa in duplicate alongwith 2.5% earnest money of the total Bid in the shape of Pay Order (Payee's A/c in favor of SSP/Security, Special Branch Karachi should be dropped in the tender box kept in the office of SSP/Security, Special Branch, 2nd Floor Kemari Police Complex, near Jackson Police Station Kemari, Karachi on 13-10-2020 at 1330 hours.
- 4. The tenders shall be opened on 22-10-2020 at 1400 hours in the office of SSP/Security, Special Branch, 2nd Floor Kemari Police Complex, Karachi in the presence of Procurement Committee and Representatives of Firms / Bidders who choose to be present on the occasion.
- Only Suppliers / Firms registered in FBR / Income Tax Department are eligible to participate in the tender (Documentary proof required).
- All items should be best quality wise and samples may also be provided for inspection.
- Only bid offered on the prescribed tender form issued by the Police Department, Special Branch, Sindh will be accepted. However, additional sheets may be attached, if required.
- Conditional tender / application will not be entertained.
- Competent authority can cancel the bidding process at any time prior to the acceptance of a proposal as per provision of Rules-25(1) of SPPRA Rules 2010 (amended 2019).


Sd/-

(ARIF AZIZ) PSP,

(Chairmain Procurement Committee) SSP/Security, Special Branch,

Karachi

INF-KRY No. 2592/2020





Say No to Corruption

National Identity Card (CNIC) to update our records. In case of nonsubmission of CNIC (copy), all future dividend warrants may be withheld.

 Members are requested to submit declaration as per Zakat & Ushr Ordinance 1980 for zakat exemption and to advise change in address if any.

E-DIVIDEND

As per Section 242 of the Companies Act, 2017, in case of a public listed company, any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Therefore, through this notice, all shareholders are requested to update their IBAN details in the Central Depository System through respective participants. In case of physical shares, to provide bank account details to our Share Registrar, M/s Riasat Ishtiaq Consulting (Pvt) Ltd. E-Dividend mandate form is enclosed.

FILER AND NON FILER STATUS

- i) In pursuance of Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 whereby different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies. These tax rates are as under:
  - a) For filers of income tax returns 15%

b) For non-filers of income tax returns 30%

To enable the Company to make tax deduction on the amount of cash dividend @ 15% instead of 30%, all the shareholders whose names are not entered into the Active Tax payers List (ATL) provided on the website of FBR, despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL on or before the date of approval of cash dividend at the Annual General Meeting on October 27, 2020 otherwise tax on their cash dividend will be deducted @ 30% instead of @ 15%.

Further, according to clarification received from Federal Board of Revenue (FBR), with-holding tax will be determined separately on 'Filer/Non-Filer' status of Principal shareholder as well as jointholder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint accounts. In this regard all shareholders who hold shares jointly are requested to provide shareholding Proportions of Principal shareholders and Joint-holder(s) in respect of shares held by them (only if not already provided) to our Shares Registrar, in writing as follows:

173	Folio/		Principal Shareholder		Joint Shareholder	
Company Name	CDS Account No.	Total Shares		Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC No.	Proportion

 For any query / problem / information, the investors may contact the Company or the Share Registrar at the following addresses, phone numbers, email addresses:

**Biafo Industries Limited** 

1\*tFloor, Biafo House, Plot No. 23, St No. 38-40, I&T Centre, G-10/4, Islamabad, Pakistan.

Tel: +92 51 2353450-53, 2353455-57, Fax: +92 51 2353458 Website: www.biafo.com, E-mail: management@biafo.com

Riasat Ishtiaq Consulting (Pvt) Limited

Office No. 19-20, 2nd Floor, Hill View Plaza, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad, Pakistan.

Tel: +92 51 2344223-4, Fax: +92 51 2605658

iii) The corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants, whereas corporate members having physical shares should send a copy of their NTN certificate to the company or its Share Registrar i.e. M/s Riasat Ishtiaq Consulting (Pvt) Ltd. The shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote company name and their respective folio numbers.

STATEMENT OF UNCLAIMED OR UNPAID AMOUNTS UNDER SECTION 244 OF THE

COMPANIES ACT, 2017

The Securities and Exchange Commission of Pakistan pursuant to section 244 read with section 510 of the Companies Act 2017 directs all Companies to submit a statement to the Commission through eServices portal (https://eservices.secp.gov.pk/eServices/) stating therein the number or amounts, as case may be, which remain unclaimed or unpaid for a period of three years from the date it is due and any other instrument or amount which remain unclaimed or unpaid, as may be specified.

Through this notice, the shareholders are intimated to contact with the Company for any unclaimed dividend/shares within a period of seven days after publishing this notice to meet the compliance of SECP Direction no. 16 of 2017 dated 07 July 2017. The Shareholders are requested to contact the Company on its registered address regarding any unclaimed dividends or undelivered shares (if any).